

ڈیٹا کی پروسیسنگ کے ضمن میں معلومات

"مقامی شناختی دستاویز رجسٹری (IDR)"

عمومی ڈیٹا تحفظ کے ضابطے (DSGVO) کے آرٹیکل 13 اور 14 کے مطابق

کنٹرولر کا نام اور رابطہ تفصیلات:

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (فیڈرل آفس برائے امیگریشن اور پناہ گزین)
Modcenterstraße 22, 1030 Wien

فون: +43- 59 133 98 7004

فیکس: +43- 59 133 98 7399

ای میل: BFA-Einlaufstelle@bmi.gv.at

ڈیٹا تحفظ کے آفسر کی رابطہ معلومات:

فون: +43- 59 133 98 - 0

ای میل: BFA-Datenschutzbeauftragter@bmi.gv.at

عمل کاری کے مقاصد جن کے لیے ذاتی ڈیٹا مطلوب ہے:

ID کارڈز کے اجراء کے لیے مقامی ریکارڈز نیز ID کارڈ ڈیٹا کے ریکارڈ کی رکھوالی

عمل کاری کے لیے قانونی وجہ:

پاسپورٹ ایکٹ کے آرٹیکل 3، 16، 22a، ترمیم شدہ طور پر فیڈرل لاء گزٹ نمبر 839/1992، بحوالہ پاسپورٹ ایکٹ
نفاذ کاری ضابطہ (PassG-DV)، ترمیم شدہ طور پر فیڈرل لاء گزٹ II نمبر 223/2006، بحوالہ پاسپورٹ حکم نامہ
(PassV)، ترمیم شدہ طور پر فیڈرل لاء گزٹ نمبر 861/1995، بحوالہ ای-گورنمنٹ ایکٹ (E-GovG)، ترمیم شدہ طور
پر وفاقی لاء گزٹ I نمبر 10/2004، بحوالہ SourcePIN رجسٹر ضابطہ (StZReg)، ترمیم شدہ طور پر فیڈرل لاء
گزٹ II نمبر 57/2005

دورانیہ جب تک ذاتی ڈیٹا محفوظ رکھا جائے گا:

سماعتوں سے متعلق ڈیٹا جب درکار نہ ہو تو حذف کر دیا جائے گا، تاہم یہ پاسپورٹ کے اجراء کے بعد حسب ترتیب
ابتدائی 10 سال گزرنے تک ہو گا۔ پیش کردہ سرٹیفیکیشن سے ڈیٹا کو شناختی کارڈز کی غیر موزونیت کے ایک سال جبکہ
پاسپورٹس کے لیے حسب ترتیب - کم از کم پاسپورٹ کی موزونیت زائد المیعاد ہونے کے ابتدائی 6 سال بعد حذف کر دیا
جائے گا۔ درخواست کا ڈیٹا موزوں دستبرداری یا قانونی طور پر واجب مستردگی جو، ایسی سماعتوں کی قانونی واجب
تکمیل کے بعد جاری سماعتوں کے ساتھ حاشیہ شدہ ہوں۔ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کا ڈیٹا غیر موزونیت کے ایک سال
بعد حذف ہو جائے گا، تاہم آخری موزونیت کے وقفے کی زائد المیعادیت کے بعد 6 سال کے بعد نہیں ہو سکتا۔ گمشدہ یا
بے ضابطہ پاسپورٹس ان کے آخری موزونیت کے وقفے کے زائد المیعاد ہونے کے 6 سال میں حذف کر دینے جائیں گے؛
گمشدہ یا بے ضابطہ پاسپورٹ کے متبادل ان کی موزونیت زائد المیعاد ہونے کے ایک سال بعد حذف کیے جائیں گے۔
پاسپورٹ ایکٹ کے آرٹیکل 22a، سیکشن 1، آئٹم k کی رو سے ڈیٹا، ایسی دستاویز ارسال (پاسپورٹ ایکٹ کے آرٹیکل 3،
سیکشن 6) کرنے کے زیادہ سے زیادہ دو مہینے بعد تک اور فیڈرل منسٹری آف یورپ، باہم انضمام اور غیر ملکی
معاملات کے حوالے سے بھیجنے کے زیادہ سے زیادہ چار مہینے تک، بصورت دیگر موزوں دستبرداری حسب ترتیب
قانونی طور پر لازم مستردگی یا درخواست کی موقوفی کے ساتھ حذف کر دیئے جائیں گے۔

ذاتی ڈیٹا کے موصول کنندگان کے زمرہ جات:

پاسپورٹ کے دیگر مقامی مجاز حکام؛ سیکورٹی ایجنسیز؛ ای-گورنمنٹ ایکٹ میں مذکور استعداد کے اندر SourcePIN رجسٹر اتھارٹی

پروسیسرز:

;IBM Österreich - Internationale Büromaschinen Gesellschaft m.b.H.
;Microsoft Österreich GmbH ;Bundesrechenzentrum GmbH.
Österreichische Staatsdruckerei GmbH

ڈیٹا کے موضوع کے حقوق:

آسٹریا کے ڈیٹا تحفظ کے ادارے (8 Wickenburggasse, 1080 Wien, فون +43 1 52 152-0، ای میل dsb@dsb.gv.at) پر شکایت دائر کروانے کا حق ڈیٹا تحفظ ایکٹ (DSG) کے آرٹیکل 24، پیراگراف 1 کے مطابق لاگو ہوتا ہے۔

رسائی کا حق DSGVO کے آرٹیکل 15 میں بیان کردہ ہے۔

درستی کا حق DSGVO کے آرٹیکل 16 میں بیان کردہ ہے۔

مٹانے کا حق ('بھولنے کا حق') DSGVO کے آرٹیکل 17 میں بیان کردہ ہے۔

نہ تو آرٹیکل 21 DSGVO کے رو سے اعتراض کا کوئی حق نہ ہی DSGVO کے آرٹیکل 18 کی رو سے ڈیٹا پر عمل کاری کی حد بندی کا کوئی حق قابل اطلاق نہیں ہیں۔